

برائے فوری اجراء

## 'ڈیجیٹل ڈورز اوپن برامپٹن' کے دوسرے سال میں ہر دروازے کے پیچھے چھپی داستان دریافت کریں

برامپٹن، آن (23 ستمبر 2021) - مورخہ 23 ستمبر تا 31 اکتوبر تک رہائشی اور سیاح برامپٹن کی تاریخ، ثقافت اور منفرد ثقافتی مقامات کو ڈیجیٹل ڈورز اوپن (Digital Doors Open) کے دوسرے سال کے ایک حصے کے طور پر اپنے گھروں کے پرسکون ماحول سے دیکھ سکتے ہیں۔

صوبہ بھر میں منعقد ہونے والی تقریب میں برامپٹن کے مضافات میں موجود 20 سے زائد مقامات کے ورچوئل ٹورز، ویڈیوز اور تصاویر میں شرکت کریں، جن کے ذریعے پورے صوبے کے اپنے بھرپور ورثے اور سرسبز جگہوں کی نمائش کی جائے گی۔ اس سال جو نئی چیزیں شامل ہوں گی ان میں، سرسبز ترغیبات کی حامل عمارات، ٹریلز، پارک، ساحل، جھیلیں، زیر تحفظ علاقے اور برامپٹن بھر میں موجود سرسبز مقامات کی سیر شامل ہو گی۔ موسم خزاں کے رنگوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین مقامات کا نظارہ کریں اور ہمارے 2021 نرچرنگ نیبر ہڈ پروگرام کے ورچوئل ٹورز میں حصہ لیں۔

مکمل تجربے کے لیے [brampton.ca/doorsopen](http://brampton.ca/doorsopen) ملاحظہ کریں۔

اونٹاریو ہیریٹیج ٹرسٹ، اونٹاریو کی تمام کمیونٹیز کے تعاون کے ساتھ اونٹاریو کے انتہائی منفرد اور دلچسپ ثقافتی مقامات کے دروازے، گیٹ اور صحن کھولنے کے لیے کام کر رہا ہے، تاکہ آپ ان کے اندر کی داستانیں دریافت کر سکیں۔ تفصیلات کے لیے [doorsopenontario.on.ca](http://doorsopenontario.on.ca) ملاحظہ کریں۔

### اقتباسات

"برامپٹن بھرپور ثقافتی ورثے کی حامل خوبصورت متنوع کمیونٹیز پر مشتمل ہے اور میں ہر کسی کو ڈیجیٹل ڈورز اوپن کے دوسرے سال کے دوران ان سے لطف اندوز ہونے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ یہ آن لائن تقریب آپ کو اپنے گھر کے پرسکون ماحول سے برامپٹن کی سب سے پیاری جگہوں کا نظارہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ڈیجیٹل ڈورز اوپن ایک لاجواب تجربہ پیش کرتا ہے اور یہ لوگوں کو برامپٹن اور صوبہ بھر کے دلچسپ مقامات کی تلاش کا ایک نادر موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمارے آن لائن بب آف ٹورز، ویڈیوز اور تصاویر کے علاوہ، برامپٹن کے کچھ انتہائی دلچسپ مقامات کو دیکھنا ہر گز نہ بھولیں، جن میں شہر کو سرسبز بنانے کی ہماری ترغیبات اور بیرونی جگہوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔"

- برکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارٹنز 9 اور 10، چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن کے عملے نے ڈیجیٹل ڈورز اوپن برامپٹن کے دوسرے سال کے لیے ایک شاندار آن لائن تجربہ تخلیق کیا ہے۔ شہر کی بھرپور تاریخ اور خوبصورت بیرونی مقامات کا لطف اٹھائیں اور ان جگہوں کے اندر جھانکیں جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ ایک ایسی ورچوئل تقریب ہے جس کو آپ ہر گز نہیں چھوڑنا چاہیں گے!"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

پراجوٹ کینتھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Prabhjot.Kainth@brampton.ca](mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca)